

# عالم اسلام کی تعمیر میں مسلمان طلبہ کاردار

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیڈیا  
۱۲۔ ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔ (پاکستان)

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

طالع ..... پروفیسر محمد امین جاوید، میجنگ ڈائریکٹر  
ناشر ..... اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمبیڈ  
۱۳۔ ای شاہ عالم مارکیٹ لاہور  
مطبع ..... انج، وائی پرنسپل، لاہور

اشاعت:

۱۱۱۱ اگست ۱۹۹۷ء تک ۳۳۳۰۰

۱۲ فروری ۱۹۹۸ء تک ۱۰۰

قیمت: ۶ روپے

(یہ ایک تقریر ہے جو مصنف نے طلبہ کے ایک سالانہ اجتماع کے موقع پر کی تھی۔ اب اسے بعض جزوی تبدیلیوں کے بعد کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔)  
حمد و شکر کے بعد.....

عزیز طلباء اور محترم حاضرین، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے اس کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے میں اس بات پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ مسلم ممالک کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہر جگہ خدا کے فضل سے ایسے نوجوان موجود ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، جو مسلمان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ہمارے تعالیٰ اداروں میں اسلامی روح پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کے دل میں ممالک اسلامیہ کی بھلائی کا جذبہ ہو تو وہ اس چیز کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ چیز کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ خدا کی رحمت ہے کہ نظام تعلیم اور نظام تربیت پر مغربی افکار و تہذیب کے غلبہ کے باوجود ہماری درسگاہوں میں اس طرح کے نوجوان پائے جاتے ہیں اور ساری مشکلات کے باوجود اپنے اس فرض کو سرگرمی کے ساتھ انعام دے رہے ہیں۔

## موضوع بحث

مجھے جس موضوع پر اس وقت اظہار خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بلا اسلامیہ کے مستقبل کی تعمیر میں طلبہ کا کیا کردار ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین کر لیجئے کہ میرا خطاب اس وقت ان تمام مسلم ممالک کے طلبہ سے ہے جو مغربی استعمار کی براہ راست غلامی میں رہنے، یا مغربی اقوام سے ہر میدان میں شکستیں کھانے کے بعد، ان کے افکار اور ان کی تہذیب سے مغلوب ہو گئے ہیں، اور جن کی زندگی کا ہر شعبہ تعلیم و تربیت کے شعبے سمیت انہیں نظریات اور طریقوں پر چل رہا ہے جو اہل مغرب سے ان کو ملے ہیں میرے نزدیک ان تمام ممالک کے حالات ایک جیسے ہیں۔ اور ان سب ملکوں میں طلبہ کو ایک ہی اہم مسئلہ سے سابقہ درپیش ہے۔

## عالیٰ اسلام سے مراد مسلمہ ہے

دوسری بات جو آپ کی نگاہ میں رہنی چاہئے وہ یہ ہے کہ عالیٰ اسلام سے مراد اس کی زمین نہیں ہے اس کے پھاڑوں اور دریاؤں کا نام نہیں ہے، ان انسانوں کا نام ہے اس سر زمین پر رہتے ہیں۔ یہ انسان فانی ہیں، ہر ایک کو اپنی ایک عمر گزار کر خصت ہو جانا ہے، اس سر زمین میں ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن اور ہمارا نظامِ زندگی اگر باقی رہ سکتا ہے تو صرف اسی طرح رہ سکتا ہے کہ جو میراث ہم نے اپنے اسلاف سے پائی ہے وہ آگے کی نسل کو ٹھیک ٹھیک سونپ دیں اور اس کو اس قابل بننا کر جائیں کہ وہ اس میراث کو صحیح طریقے سے آئندہ نسلوں کے حوالے کر سکے۔

## قوموں کے فنا اور بقا سے کیا مراد ہے؟

دنیا میں جو قومیں مٹی ہیں وہ اس معنی میں نہیں مٹیں کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ وہ اگر مٹی ہیں تو اس لیے کہ ان کا قومی تشخیص ختم ہو گیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مثلاً بابل کی قوم مٹ گئی یا فراعنة مصر کی قوم مٹ گئی تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ اہل بابل اور فراعنة جس تہذیب کے علمبردار تھے اس کی خصوصیات مٹ گئیں اور اس کے امتیازی اوصاف ختم ہو گئے۔ اہل بابل کی نسل آج بھی موجود ہے مگر ان کا تشخیص ختم ہو گیا۔ قدیم مصریوں کی نسل بھی موجود ہے مگر فرعونی اور قبطی تہذیب و ثقافت ختم ہو گئی کیونکہ ان کی نسلیں اس قابل نہ رہیں کہ بعد کی نسلوں تک اپنی قومی میراث کو ٹھیک ٹھیک منتقل کر سکتیں۔ کسی قوم کی نئی نسلیں اگر اپنا قومی تشخیص کو ہدیں اور کوئی دوسرا تشخیص اختیار کر لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قوم ختم ہو گئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دس قبیلے غائب ہو گئے جن کا آج کہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کا قتل عام ہوا تھا اور ان کا نفع ہی دنیا سے مٹ گیا بلکہ اس معنی میں ہے کہ ان کے اندر سے اسرائیلیت کا احساس ختم ہو گیا اور ان کی نسلوں میں اسرائیلی شعور نہ رہا۔ اسرائیلی خصوصیات اور اسرائیلی تہذیب و تمدن کے امتیازی اوصاف کو کھو دینے کے بعد وہ دنیا کی دوری قوموں میں جذب ہو کر ازل مل گئے اور آج خود ان کی اولاد بھی یہ نہیں جانتی کہ ہم اسرائیلی ہیں۔ اس لیے

ایک قوم کے زندہ رہنے کا سردار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسل کو اس طرح تیار کرے جس سے وہ اس کے قومی شخص کو برقرار رکھ سکے۔ اسی چیز کی اہمیت میں اس وقت اپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔

## تہذیبی میراث کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے

یہ زمین جسے آج ہم عالم اسلام سے تعمیر کرتے ہیں ہمارے اسلاف نے اس غرض کے لیے حاصل کی تھی کہ یہاں اسلامی تہذیب جلوہ گر ہو۔ ہم جس نظام زندگی کے قائل ہیں اس کو یہاں عمل میں لایا جاسکے۔ ہم جن قوانین اور جن اصول حیات کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سرزی میں رانج ہوں۔ مسلمان قوم کے بقا کا انحصار بھی دوسری تمام قوموں کی طرح اس بات پر ہے کہ جو تہذیب، جو تمدن اور جو اصول حیات اسلام کے نام سے موسوم ہے جن کو ہم نے اپنے بزرگوں سے پایا ہے، جن کی بنیا پر ہم دوسروں سے الگ ایک مسلمان قوم سمجھے جاتے ہیں پس صحیح طریقے سے آئندہ نسلوں تک پہنچیں۔ آئندہ نسلیں اسی رنگ میں رکنیں اور ان کو ہم انہی اصولوں کے مطابق تیار کر کے جائیں تا کہ اس پاکستان میں مسلمان قوم زندہ رہ سکے۔ مسلمان افراد زندہ نہیں رہ سکتے لیکن مسلمان قوم صد ہا برس تک زندہ رہ سکتی ہے بشرطیکہ وہ اس قابل ہو کہ اس تہذیبی میراث کو منتقل کر سکے اور نسل در نسل اس کے منتقل ہونے کا سلسلہ چلتا رہے۔ اگر ہم ان امتیازی خصوصیات کو باقی نہ رکھ سکیں اور ہماری نئی نسلیں اسلامی تہذیب کے بجائے، مثلاً امریکی تہذیب میں رنگی جائیں تو آئندہ یہ پاکستان نہ ہو گا بلکہ امریکستان ہو گا۔ ہماری نسلیں موجود ہیں گی مگر امریکیت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گی۔ وہ اسلامی تہذیب کا بقا نہیں ہو گا جس کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا بلکہ وہ ایک دوسری تہذیب کا بقا ہو گا اور اس سے ہمارا قومی شخص بدل جائے گا۔ اس چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طلبہ کا مسئلہ حقیقت میں کیا ہے اور وہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ محض تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے قومی وجود اور اس کے بقا کا مسئلہ ہے۔ ہم یہاں ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے اسی طرح زندہ باقی رہ سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو درس گا ہوں میں تیار ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک

ٹھیک اسلامی تہذیب کی حامل ہو اور اس کی علمبرداریں کر اس سرزی میں میں رہے۔

## تہذیبی میراث کو آگے منتقل کرنے کے دور طریقے

اس مقصد کو حاصل کرنے کی دو ہی شکلیں ہیں۔ ایک یہ طباء خود اس کے لیے کوشش کریں۔ اور دوسری یہ کہ حکومت ملک کے نظام تعلیم و تربیت کو ایسا بنائے جس سے یہ مقصد حاصل ہو۔ میں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کروں گا۔

## وہ طریقہ جسے طلبہ اختیار کر سکتے ہیں

جو طلبہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ خدا کے فضل سے بالغ ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور ان میں اپنے برے اور بھلے کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ جو بھی علم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کم از کم انہیں اس قابل تو ضرور بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں اور اپناراستہ خود بن سکتے ہیں اس وجہ سے تمام تراخصار بالکل حکومت ہی کی کوششوں پر نہیں ہے بلکہ خود طلبہ کی اپنی کوششوں پر بھی ہے۔ ہمارے نوجوان طلبہ کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں اور انہیں اس سرزی میں میں ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے رہنا ہے۔ ان کے اندر خود یہ خواہش ہونی چاہئے کہ وہ مسلمان قوم کی ان امتیازی خصوصیات کو سمجھیں اور برقرار رکھیں جنہیں کھود بینے کے بعد اس کا قومی تشخیص قائم نہیں رہ سکتا۔

## اسلام کے بنیادی عقائد

اسلام کا سارا دارو مدار تو حید کے عقیدے، رسالت کے عقیدے اور آخرت کے عقیدے پر ہے۔ ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ ان تین چیزوں میں شک پیدا ہو جانے کے بعد کوئی شخص اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ چیز جو ان عقائد میں شک پیدا کرتی ہے درحقیقت وہ اسلامی تہذیب کی اور بالآخر خود پاکستان کی جڑ کاٹ دینے والی ہے پاکستان زندہ نہ رہے گا اگر اس میں اسلامی تہذیب باقی نہ ہو۔ اور اسلامی

تہذیب باقی نہیں رہ سکتی اگر اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے بنیاد کے طور پر موجود نہ ہوں۔

## ان عقائد کی حفاظت لازمی ہے

سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جن نوجوانوں میں کو اسلامی شعور موجود ہے وہ اپنی درس گاہوں میں الحد و ہربیت اور تشكیک پیدا کرنے والی ہر تحریک کا مقابلہ کریں۔ کسی ایسی تحریک کو پہنچنے نہ دیں جو ان بنیادی عقیدوں سے مخالف کرنے والی ہو جس طریقے سے بھی ممکن ہو۔ ایسی ہر تحریک کا مقابلہ کرنا عالم اسلام کے بقا اور ملت اسلامی کو زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہیاً گر کوئی شخص ان تین چیزوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے تو وہ صرف ایک کفر ہی کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ حقیقت میں وہ ملت اسلامی کے ساتھ غداری کرتا ہے اور اس عالم اسلام کی جڑ کا تباہ ہے۔ اس احساس کو اچھی طرح دلوں میں جا گزیں کر لیجئے۔ اگر آج تک اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آئندہ نہ ہونی چاہئے۔ ہمارے ملک کی کسی درس گاہ میں، کسی کالج، کسی یونیورسٹی اور کسی مدرسے میں بھی اب مخدانہ نظریات و افکار کو ہرگز نہ پھیلینے دیا جائے اور کسی ایسے فلسفے کو نہ پکڑنے دی جائے جو اسلام کے بنیادی عقائد میں شک پیدا کرنے والا ہو۔

## اسلامی اخلاق اور اسلامی تہذیب سے مکمل وابستگی۔

دوسری اہم چیز جس کی طرف ہمارے نوجوان طلبہ کو متوجہ ہونا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہماری بقا کا انحصار جس طرح اسلام کے عقیدے پر ہے اسی طرح اسلامی اخلاق پر بھی ہے۔ عقیدے اور اخلاق میں ایک گہرا تعلق ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ ہی ہم سے چند خاص اخلاقیات کا نقاضا کرتا ہے۔ ہماری درس گاہوں میں ایک مدت دراز سے اخلاق کے معاملہ میں شدید غفلت ہی نہیں برقراری ہے بلکہ ایک ایسی شفافت کو پروش کیا جا رہا ہے جو اسلام کے تمام تصورات کی اور اس کے تمام بنیادی اخلاقی

نظریات کی ضد ہے۔ ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اخلاق جن کے مل پر کوئی مغربی قوم اٹھ سکتی ہے، ہم اس کے مل پر نہیں اٹھ سکتے۔ ہم اگر اٹھ سکتے ہیں تو ان اخلاقی نظریات کی بنیاد پر اٹھ سکتے ہیں جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں۔ مغرب کا ایک آدمی ناج گا کر شراب پی کر اور فواحش کا ارتکاب کر کے بھی اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ جن مادی فلسفوں پر اس کے اخلاق کی تغیر ہوئی ہے، یہ چیزیں ان کی ضد نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان جس کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام کیا ہے وہ جب اس ثقافت کو اختیار کرتا ہے اور اس طرزِ زندگی کی پیروی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے منت موڑ کر ایسا کرتا ہے۔ ایک مغربی آدمی یہ کام کر کے اپنے اخلاقی اصولوں سے منہ نہیں موڑتا لیکن ہم اس تہذیب کو اختیار کرتے ہیں تو ان تمام اصولوں کو توڑ ڈالتے ہیں جن پر ہمارے اخلاق کی بنیاد قائم ہے۔ ایک مسلمان اگر شراب پیتا ہے تو اس کی حیثیت ایک مغربی کے شراب پینے سے بہت مختلف ہے۔ اگرچہ شراب کے جسمانی اور نفسانی نقصانات سب انسانوں کے لیے یکساں ہیں خواہ پینے والا مسلمان ہو یا کافر۔ لیکن ایک کافر کے دین میں چونکہ شراب حرام نہیں ہے اس لیے وہ جب اس کو استعمال کرتا ہے تو صرف ایک مضر چیز کا استعمال کرتا ہے اپنے عقیدے پر لات نہیں مارتا۔ اس کے برعکس ایک مسلمان اس حرام فعل کا ارتکاب اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر رخدا اور رسول سے بغاوت اور آخرت سے بے پرواںی کا جذبہ پرورش نہ پا چکا ہو۔ اور اس کے بعد معاملہ صرف ایک حرمت کے توڑ نے پر نہیں رکتا بلکہ پھر وہ تمام حرمتیں توڑتا اور اخلاقی بندشیں کاٹتا چلا جاتا ہے پھر تو کوئی چیز اس کے لیے ایسی مقدس نہیں رہ جاتی جسے پامال کر دینے سے وہ باز رہ جائے۔

## اسلامی معاشرے کے اندر غیر اسلامی تہذیب کے نقصانات

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک غیر اسلامی تہذیب اگر ایک مسلمان قوم کے اندر رواج پا جاتے تو اس کے نقصانات اس سے بدر جہا زیادہ ہیں جو کسی غیر مسلم قوم میں اس تہذیب کے رواج پانے سے ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلم پر اس تہذیب کے برے اثرات صرف

اس حد تک ہوتے ہیں جتنے ہر غلط چیز کے اثرات کسی شخص یا قوم پر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر کسی فاسقانہ تہذیب کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے ایمان پر بھی زد پڑتی ہے۔ اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر خدا اور رسول کی اطاعت کے بجائے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس بغاوت کے بعد ممکن نہیں رہتا کہ ہم دنیا میں کسی وفاداری پر اور کسی نظم کی اطاعت پر قائم رہ سکیں۔ کیونکہ سب سے بڑھ کر جس کی وفاداری و اطاعت ہم پر لازم تھی اس سے ہم پہلے ہی بغاوت کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ اسلامی احکام کی نافرمانی پر اتر آتا ہے تو وہ ایک نافرمانی پر بس نہیں کرتا بلکہ نافرمانیاں کرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی احساس فرض باقی نہیں رہتا۔ کسی قانون کا احترام باقی نہیں رہتا کسی حد پر جا کر اس کی اخلاقی گروٹ نہیں رکتی۔ آپ اندازہ کہیجئے کہ جب ایک شخص خدا کو خدا کا رسول اور قرآن کو خدا کی کتاب مانتے کے باوجود کسی ایسے فعل کا رہکاب کرتا ہے جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ خدا نے اس سے منع کیا ہے، رسول نے اس کی نہ ملت کی ہے، قرآن نے اسے حرام کیا ہے اور آخرت کے عذاب کی وعید سنائی ہے، تو اس کے بعد آخر کیا چیز اسے کسی اخلاقی قدر کا احترام ملحوظ رکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے؟ کسی لیچلیچر کے قانون کا وہ کیسے پابند رہ سکتا ہے جسے وہ خدا نہیں مانتا؟ کسی قوم یا ملک کے لیے وہ اپنی زات اور اپنی خواہشات کو کیسے قربان کر سکتا ہے جسے وہ مجبود نہیں سمجھتا؟ اس کے اندر تو مقدس ترین چیزوں تک کی بے احترامی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کو تو قانون شکنی کا مرض لگ چکا ہے، اور اپنے ایمان کی رو سے وہ بلندر ترین قانون کو توڑ چکا ہے۔ یہ قانون شکنی کسی حد پر جا کر نہ رکے گی بلکہ وہ مستقل طور پر قانون کی بے احترامی کے مرض میں بیتلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو قع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی معاملہ میں بھی کسی قانون کا پابند رہے ہے گا۔ ایسا شخص تو کسی مہذب سوسائٹی کا رکن بننے کے قابل بھی نہیں رہتا کجا کہ وہ ایک مسلم سوسائٹی کا رکن رہے۔

مسلمان طلبہ کے اندر غیر اسلامی ثقافت کو رواج دینے والے مجرم ہیں۔ اس چیز کو اگر کوئی شخص اچھی طرح سمجھ لے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ جو لوگ ہماری درس

گاہوں میں ہمارے نوجوانوں کو عیاش بنارہے ہیں، ان کو طاؤس و رباب کا شیفتہ بنارہے ہیں، غیر اسلامی ثقافت کو ان میں رواج دے رہے ہیں، اور اسلامی اخلاق کی بندشوں کو تورڈا لئے کی بیماری انہیں لگا رہے ہیں، وہ کتنے برے جرم کا رنگاب کر رہے ہیں اور کتنی بڑی بد خواہی اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان طلبہ کو خود اس کے نقصانات محسوس کرنے چاہیں۔ اگر ملک کا نظام چلانے والے اپنی نادانی سے یہ غلطی کر رہے ہیں و طلبہ کا یہ کام ہے کہ وہ خود اس سے بچیں اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اس سے محفوظ رکھیں۔ انہیں اپنی درس گاہوں میں ایسی رائے عام پیدا کرنی چاہئے کہ طلبہ اس غلط تہذیب کو نہ خود اختیار کریں نہ اپنی سوسائٹی اور اپنی درس گاہوں میں اسے رواج پانے دیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر خود طلبہ ہی کے اندر ایسی عام رائے پیدا ہو جائے اور وہ خود اس چیز کے مخالف ہو جائیں تو وہ کون سی طاقت ہے جو ان درس گاہوں میں زبردستی اس ثقافت کو رواج دے سکے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کو پولیس کے ذریعے سے نچوایا نہیں جاسکتا۔ کوئی قانون بنا کر آپ کو غیر اسلامی ثقافت اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ صرف ایک شیطانی تریغی ہی تو ہے جس سے لوگوں کو لا سہ لگایا جا رہا ہے، اور ان کی عادتیں بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ طلبہ اگر یہ محسوس کر لیں کہ یہ ایک بیماری ہے جو انہیں لگائی جا رہی ہے تو وہ خود اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی درس گاہوں میں اس طرح کی خرابیوں کے رواج پانے کی مزاحمت کر سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ طالب میں یہ عام رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

یہ دو باتیں تو وہ ہیں جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود طلبہ کے اپنے کرنے کی ہیں اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں تو بہت بڑی حد تک ان خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں جو اس وقت ہماری درس گاہوں میں پھیل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے نوجوان طلبہ کو اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیئے کہ ان کو دین اسلام سے واقف کرانے کے معاملے میں جو کچھ بھی کوتا ہی ہمارے نظام تعلیم میں کی گئی ہے اس کی تلافی وہ اپنی کوششوں سے کریں۔ میں بعد میں عرض کروں گا کہ حکومت کو اس معاملہ میں کیا کرنا چاہئے۔ لیکن فرض کچھیے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں کرتی تو دین اسلام کو جو جانے کا جو فرض خود آپ پر شخصی حیثیت سے عائد ہوتا ہے وہ ساقط

نہیں ہو جاتا۔ ہر باغ مسلمان کو جس کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہو اور جو خود اپنے اختیار سے کام کرنے کے قابل ہو چکا ہو، اس کا فرض ہے کہ جس اسلام کا وہ قائل ہے اور جس اسلام کی نسبت سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو جانے کی آپ ہی کوشش کرے۔ یہ علیحدہ صلح کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ دینی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے دین کا کم سے کم خلاصہ تو آسانی کے ساتھ آدمی کو اپنی ذرا سی کوشش سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی اپنی زبان میں جو اسلامی لٹریچر موجود ہے اسی کا مطالعہ کجیئے اور کم از کم اتنا جان لیجئے کہ کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے، کیا بینا دی چیزیں ہیں جن سے ایک آدمی کافر سے مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان کو کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیئے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے لیے منوع کیا چیزیں ہیں، اس کے لیے اخلاق کے کیا اصول ہیں جن کی اسے پابندی کرنی چاہیئے، اس کے لیے زندگی بسر کرنے کے کیا طریقے اسلام نے مقرر کیے ہیں جن کی اس کو پیروی کرنی چاہیئے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے لیے کسی دینی درس گاہ میں ہی آپ کا جانا اور برسوں علوم دینی پڑھنا ضروری ہو۔ تھوڑی تی تو جہ او ر تھوڑی تی محنت سے ہمارا ہر نوجوان اسلام کا کم از کم اتنا علم تو حاصل کر ہی سکتا ہے اور اس علم کے لیے ہر زبان میں کافی مادہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان خود اس علم کی ضرورت محسوس کریں اور اسے حاصل کرنے کی فکر کریں۔ یہ علم آپ کو امتحان پاس کرنے اور ڈگری لینے کے لیے نہیں بلکہ مسلمان بننے کے لیے درکار ہے۔

اس بارے میں بماہری حکومتوں کا پہلا فرض  
ہماری حکومت کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیئے کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر جو بد عنوانی (Corruption) پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسے بڑے پیمانے پر کوششوں، تمام قوانین اور انتہی کرپشن (Anti-Corruption) کے مکمل کے باوجود کرپشن گھنٹے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ اس کرپشن نے ہمارے پورے قانونی نظام کو بے کار کر کے رکھ دیا ہے۔ جو قانون بھی کسی برائی کی اصلاح کے لیے نافذ کیا جاتا ہے اس کو جو ضيق قانون کے نافذ کرنے والوں کی بد دیانتی اور رشوت خوری عملانہ صرف معطل کر دیتی ہے، بلکہ قانون کی ہر پابندی رشوت کا ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے، مگر یہ معاملہ صرف اسی حد تک نقصان پہنچا کر

نہیں رہ جاتا۔ اسی کرپشن کی بدولت ہمارے ملک کا غلہ ہمارے دشمنوں کو ہزاروں ٹن کی مقدار میں پکنچتا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں بھارت کے جن علاقوں پر پاکستان کی فوجوں نے قبضہ کیا ہے وہاں غلے کی ہزاروں بوریاں پائی گئی ہیں جو پاکستان سے گئی ہوئی تھیں۔ اس طرح یہ کرپشن ہمارے دشمنوں کو ہمارے خرچ پر پالتا رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ سوچیں تو اس بات کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے ملک میں اپنے بھائیوں سے سورپے لے کر بے ایمانی کر سکتا ہے تو آخر دشمنوں سے دس ہزار روپے لے کر ہمارا کوئی رازان کے ہاتھ کیوں نہیں بچ سکتا جب ایک قوم میں ضمیر فروشی اور بد دیانتی کی وبا پھیل جائے اور اس میں ہزاروں افراد ایسے موجود ہوں جو ذاتی مقادیر پر قوم ملک دین ایمان ہر چیز کو فربان کر سکتے ہوں تو جس طرح ان کو خود اپنے ملک کے گذاۓ ہوئے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح باہر کے دشمن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

## خیانت اور بد دیانتی کیوں پھیل رہی ہے؟

اب ذرا و بھی کہ اس کرپشن کی جڑ میں کیا چیز کام کر رہی ہے ظاہر بات ہے کہ اس ملک میں یہ حصتی بد دیانتی اور رشوٹ خوری اور خیانت ہو رہی ہے اس کے مرتكب ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہی تو ہیں۔ ملک کے سارے نظام حکومت اور معماشی نظام کو وہی تو چلا رہے ہیں دیہات کے ان پڑھ تو نہیں چلا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ ہماری انہیں درس گا ہوں سے نکل ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کوئی نقص ہمارے نظام تعلیم میں ضرور ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے اندر اس قدر کثیر تعداد میں بد دیانت افراد تیار کرتا رہا ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نظام تعلیم میں جو ناقص ہیں ان میں سب سے بڑا بنیادی نقص یہ ہے کہ جن ایمانیات اور جن عقائد پر ہماری تہذیب اور ہمارے اخلاق کی ساری بنیاد قائم ہے یہ تعلیم ان کو تقویت پہنچانے کے بجائے اثناءں کو کمزور کرتی ہے، ان میں شک پیدا کرتی ہے اور بعض لوگوں کو انکار کے مقام تک پہنچادیتی ہے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے یقین کی جڑیں ڈھیلی کیے بغیر اس تعلیم سے فارغ ہو کر بخیرت نکل آتے ہوں۔ اب یہ سوچنے کی

بات ہے کہ جب خدا اور آخرت اور رسالت ہی کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت کے لیقین و اعتقاد کو گن لگ چکا ہو تو ہمارے پاس اور کون سی چیز ایسی ہے جس انجشنا دے کر ہم انہیں اخلاق کے اصولوں پر قائم رکھ سکیں؟ جس شخص کو نہ خدا کا خوف روکنے والا ہو نہ آخرت کی باز پرس کا احساس اس کے لیے مانع ہو اسے بد دیانت اور خائن اور فرض ناشناس بننے سے آخر کیا چیز روک سکتی ہے؟ جس شخص کے اندر اپنی ذات سے بالاتر کسی چیز کی وفاداری باقی نہ رہی ہو اسے آپ کس طرح ذاتی مفاد کی قربانی پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ قربانی کے لیے کوئی نہ کوئی بالاتر وفاداری تو بہر حال ضروری ہے اور ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی بینیادی وفاداری ہے تو وہ صرف خدا اور رسول اور ملت اسلام کی وفاداری ہی ہے۔ اس وفاداری کو آپ کمزور کر دیں گے تو لوگوں کے اندر لا محالہ خود غرضی اور نفسانیت ہی پیدا ہو گی اور وہ اپنی ذات کے مفاد اور اپنی خواہشات پر کسی چیز کو قربان کر دینے میں تامل نہ کریں گے۔

## ملت کی اصلاح کے لیے اسلامی اصول ہی کا رگر ہو سکتے ہیں

آپ صرف اس وفاداری کو مستلزم کر کے ہی اپنے افراد میں یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ حق اور انصاف اور راستی پر قائم رہیں، شخص خدا کے خوف اور آخرت کی جوابدی کے احساس کی بنا پر ایسے ناجائز فائدے اٹھانے سے رک جائیں جن کا کوئی تقاضا انہیں اس دنیا میں پہنچانا نظر نہ آتا ہو، اور شخص خدا اور اس کے دین کی وفاداری کی بنا پر ہر وہ قربانی کر گزریں جو بظاہر ان کی اپنی دنیا بر باد کرتی نظر آتی ہو۔ دنا کی دوسری قوموں کے لیے کچھ دوسری وفاداریاں اور کچھ دوسری قدریں ہیں جن پر ان کے اخلاق کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ ان وفاداریوں اور قدروں کو آپ اپنی قوم میں پیدا کرنا چاہیں تو آپ کو بچا س برس اس قوم کو غیر مسلم بنانے اور کم از کم ۵۰ ہی برس انہیں ایک اچھا فرنگی بنانے میں لگیں گے تب کہیں جا کر آپ یہاں کوئی قومی کیروں پیدا کر سکیں گے بشرطیکہ اس وقت تک یہ مک باقی رہ جائے۔ لیکن اسلام کی بینیاد پر لوگوں کے اخلاق بنانے کا کام آپ آج ہی سے شروع کر سکتے ہیں اور چند سال کے اندر یہ کام اپنے بہترین پھل دے سکتا ہے، کیونکہ خدا اور رسول اور آخرت کے عقائد تو مسلمان

نوجوان کو بہر حال ان کے ماں باپ سے ملے ہیں اور مسلم معاشرے کی آب و ہوا میں اور مسلمانوں کی قومی روایات میں وہ رپے بے ہوئے ہیں۔ یہ جڑوں جو پہلے سے اس سر زمین میں موجود ہیں۔ ان کو اگر آپ ذرا سا پانی بھی دیں تو یہ فوراً ہبھی ہو جائیں گی اور پھل دینے لگیں گی۔ انگریزوں کو چونکہ ہماری تہذیب اور ہمارے اخلاق سے کوئی بچپنی نہ تھی، بلکہ وہ ہمارے مسلمان ہونے کو الشاخط ناک سمجھتے ہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہاں ایسا نظام تعلیم قائم کیا جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والا، ہمارے عقائد کو کم مشکوک بنادینے والا، اور ہماری نگاہوں سے خود اپنی تہذیب کو گردابینے والا تھا۔ ان کا سیاسی مفاد ہی اس ابتداء متناقض تھا کہ وہ ہمیں اسلام سے جس حد تک مخفف کر سکتے ہوں، کریں لیکن اب پاکستان بننے کے بعد اور خود اپنی ایک آزاد مملکت ہاتھ میں لینے کے بعد بھی اگر ہم اسی نظام تعلیم کو جاری رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دراصل خود کشی کر رہے ہیں۔

اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے اساتذہ غدار ہیں ہماری درس گاہوں میں آج ایسے استاد موجود ہیں جو دون رات طلبہ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ شب و روزان کے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی کوئی تہذیب نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی تمدن نہیں ہے اسلام کے کوئی سیاسی اصول نہیں ہیں۔ اسلام کے معashi اصول اگر کچھ ہیں بھی تو وہ اس زمانے میں نہیں چل سکتے۔ اسلام کے قوانین بالکل دقیق نہیں ہیں جو اس ترقی یافتہ دور کے لیے کسی طرح موزوں نہیں۔ تاریخ میں مسلمانوں کا کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے جتنے بھی ہیر و دنیا میں گزرے ہیں سب غیر مسلم تھے۔ جتنے بھی علوم و فنون کے امام اور موحد گزرے ہیں وہ سب بھی گیر مسلم ہی تھے میں صاف کہتا ہوں کہ جو استاد ہماری درس گاہوں میں ہمارے نوجوانوں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں اور ان کے دماغوں میں یہ فاسد خیالات بھر رہے ہیں ان سے بڑھ کر عالم اسلام اور ملت اسلامی کا غدار کوئی نہیں۔ وہ اس ملک کی جڑوں پر کلہاڑا چلانے والے لوگ ہیں اور بد قسمت ہے وہ قوم جس کی نئی نسل اس طرح کے استادوں کی تعلیم سے پروان چڑھ رہی ہو۔ اس پر مزید غصب یہ

ہے کہ متعدد اسلامی ممالک کے تعلیمی اداروں میں ایم ای ڈی اور سو شیا لو جی کی تعلیم کا پورا شعبہ امریکن یا امریکیت زدہ استادوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو بڑے پیانے پر تعلیم اور معاشرت کے متعلق ہماری نئی نسل کے نظریات کو پوری طرح منسخ کر دینے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ آخر خود کشی نہیں تو اور کیا ہے؟

## موجودہ نظام تعلیم کے نقص

ہماری حکومت کو اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نظام تعلیم میں جو نقص ہیں ان کو ہم کیسے دور کریں۔ ہمارے ہاں جو علوم و فنون پڑھائے جائے ہیں ان کے اندر بجائے خود کوئی نقص نہیں ہے۔ اصل خرابی یہ ہے کہ انہیں ایسے لوگوں نے مرتب کیا ہے جو خدا کے مانے والے نہیں ہیں اور ایسے طریقے سے مرتب کیا ہے جس سے خود بخود لوگوں کے ذہن میں ایک بے خدا کائنات کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ تصور پیدا کرتے ہیں کہ سارے کاسارا نظام کائنات آپ سے آپ بن گیا اور آپ سے آپ چل رہا ہے۔ کوئی خدا اس کا بنا نے والا اور اس کا چلانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا تصور جس پر ان علوم کی ترتیب اور ان کے بیان کی بنا رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آپ ہی اپنارہنماء ہے، کسی خدا کی رہنمائی کی نہ اس کو حاجت ہے اور نہ وہ رہنمائی کسی خدا کے پاس سے آتی ہے یہ دونوں تصور ہماری تہذیب کی جڑ کاٹ دینے والے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علوم کی ترتیب و بیان کے اس اسلوب کو بدل کر انہیں خدا پرستی کی بنیاد پر مرتب اور بیان کریں۔ ہمیں سائنس اور فلسفہ اور عمرانیات کے سارے علوم کو پڑھنا ہے۔ ان کی ہر شاخ کو پڑھنا ہے اور ان تمام معلومات سے فائدہ اٹھانا ہے جو انسان کو آج تک حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام علوم کو مسلمان بنانا کر پڑھنا ہوگا۔ ورنہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، موجودہ ترتیب و بیان کے ساتھ یہ علوم ہمیں نا مسلمان بنانا کر رہیں گے۔ یہ ہے ہماری تعلیم کا اصل مسئلہ۔ اس کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔

## اسلام اور سائنس

بہت سے لوگ اس خیال کو سن کر بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس کا آخر اسلام سے کیا تعلق۔ حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے روس کی مثال موجود ہے جو سو ویٹ سائنس کا قائل ہے۔ آپ بتائیے کہ سائنس کا گر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مارکسم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی کمیونٹ اپنے اشتراکی معاشرے کے افراد کو برٹو افسس فہم و تاریخ اور معاشیات و سیاست وغیرہ پڑھانا پسند نہیں کرتا بلکہ ان سب علوم کو مارکسم کے رنگ میں رنگ کر پڑھاتا ہے تاکہ اشتراکی سائنس دان اور اشتراکی ماہرین علوم پیدا ہوں۔ بورڈ و افقط نظر سے مرتب کیے ہوئے علوم کے پڑھا کر کوئی اشتراکی معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کی بھی کوئی اپنی تہذیب ہو جس کا بھی اپنا کوئی نظریہ حیات ہو وہ اپنے نظریہ حیات کے مخالف لوگوں کے مرتب کردہ سائنس اور علوم و فنون اپنی نوجوان نسلوں کو پڑھانا پسند نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پڑھانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شخص کو ختم کر دے اور دوسروں میں جذب ہو جائے۔

## سائنس کے دو بنیادی شعبے

یہ کہنا کہ سائنس تو ایک عالمگیر چیز ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں فی الواقع بڑی نافہمی کی بات ہے۔ سائنس میں ایک چیز تو ہیں وہ حقائق (Facts) اور تو اینیں فطرت (Natural Laws) جو تجربے اور مشاہدے سے انسان کے علم میں آتے ہیں۔ یہ بلاشبہ عالم گیر ہیں۔ دوسری چیز ہے وہ ذہن جوان حقائق اور معلومات کو مرتب کر کے ان پر نظریات قائم کرتا ہے، اور وہ زبان جس میں وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ یہ چیز عالمگیر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر تہذیب کے پیروؤں کا اسلوب الگ الگ ہے اور فطرت اُنگ ہونا چاہئے۔ ہم اسی دوسری چیز کو بدلتا چاہتے ہیں نہ کہ پہلی چیز کو۔

مثال کے طور پر دیکھیے۔ یہ ایک سائنسیک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام دوسری چیزیں تو سرد ہو کر سکڑتی چلی جاتی ہیں، مگر ان کے بر عکس پانی جب سرد ہوتے ہوئے ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو پھیل جاتا ہے اور برف بن کر ہلاکا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے برف سطح آب پر تیرنے لگتی ہے۔ یہ ایک امر واقعہ (Fact) ہے۔ اب ایک شخص اس چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ پانی کی یہ خاصیت ہے اور واقعۃ ایسا ہوا کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسی واقعۃ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنی حکمت و ربوہ بیت سے پانی میں یہ خاصیت اس لیے رکھی ہے کہ دریاوں اور تالابوں اور سمندروں میں جاندار مخلوق باقی رہ سکے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پانی جنم کر نیچے بیٹھتا چلا جاتا یہاں تک کہ پورے پورے سمندر اور تالاب اور دریا برف بن جاتے اور کوئی جاندار مخلوق ان میں زندہ نہ رہتی۔ دیکھیے ایک ہی امر واقعہ کو دو شخص اپنے اپنے طرز فکر کے مطابق دو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور ہر ایک کا بیان پڑھنے سے آدمی کے ذہن پر دو مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ سے اسی واقعی حقیقت کو بیان کیا جائے تو وہ پڑھنے والے کے ذہن میں خدا کی توحید اور اس کی حکمت اور ربوہ بیت کا عقیدہ بخھائے گا۔ اور دوسرے طریقے سے یہی واقعہ بیان کیا جائے، جس طرح موجودہ سائنس میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو کسی شخص کے ذہن میں سرے سے خدا تصور آتا ہی نہیں بلکہ اس سے آدمی کے سامنے تصویر یہ آتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے، کسی صانع حکیم کی حکمت اور کسی رب قادر کی پروردگاری اس میں کافرمان نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے اگر سائنس کو پڑھایا جائے تو اس سے ایک مادہ پرست سائنس دان تیار ہو گا اور دوسرے طریقے سے وہی سائنس پڑھایا جائے تو ایک مسلمان سائنس دان تیار ہو جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے دل میں ایمان کو گھری جڑوں سے راسخ کر دینے والا نہ ہو۔ فزکس، کیمیسٹری، بیوالوجی، فزیالوجی، انائیلوگی، اسٹرانجومی، غرض جس علم کو بھی آپ دیکھیں اس میں ایسے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو انسان کو پوکا اور سچا مومن بنادینے کے لیے کافی ہیں۔ سائنس کے حقائق سے بڑھ کر آدمی کے دل میں ایمان پیدا کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہی تو وہ آیاتِ الہی ہیں جن کی طرف قرآن بار بار توجہ

دلاتا ہے۔ مگر صرف اس وجہ سے کہ کافر سائنس دان نے ان حقوق کو اپنے نقطہ نظر سے مرتب اور بیان کیا ہے، ان کو پڑھ کر آدمی اللہ مادہ پرست اور مخدہ بنتا ہے اور خدا کے تصور پر ہستا اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت اس فرق کو سمجھے اور اس معاٹے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہم بے خدا سائنس اور بے خدا فلسفہ اور اجتماعی علوم پڑھا کر خدا پرست انسان تیار نہیں کر سکتے ہمیں اگر ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو جلدی سے جلدی ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہئے جو تمام علوم و فنون کی ترتیب کو بد لے اور ایسی نصابی کتابیں تیار کرے جن میں ان تمام علوم و فنون کو اسلامی نقطہ نظر سے مرتب کیا جائے۔ جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین و ایمان ہی نہیں خود پاکستان کو وجود بھی مستقل خطرے میں ہے۔

## ہماری حکومتوں کا دوسرا بڑا فرض

دوسری چیز جس کی طرف میں حکومت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اخلاقی تربیت کا مسئلہ ہے۔ یہ تربیت اگرچہ تمام ہی تعلیمی اداروں میں درکار ہے، مگر خاص طور پر مختلف سرکاری ملازمتوں کے لیے آدمی تیار کرنے والے اداروں میں تو اس کی شدید ضرورت ہے، خواہ وہ فوج کی ٹریننگ کے ادارے ہوں یا پولیس کی ٹریننگ کے یا سول سروس کی ٹریننگ کے۔ ان تمام اداروں میں اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیم کو لازم کیا جائے۔ اسلامی عقائد کو ذہن نشینی کرایا جائے، اسلامی احکام کی پابندی کی عادت ڈالی جائے اور کسی قسم کے فسق و فجور کو راہ پانے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو محکم کرے گی۔ ہم ایک پولیس میں کو ٹریننگ دینا شروع کرتے ہیں اور اپنی جگہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب اس کا نام عبد اللہ یا عبد الرحمن ہے تو وہ مسلمان تو ہو گا ہی، اس لیے ہمیں اس کو صرف پولیس ڈیوٹی کے لیے تیار کرنا ہے، اسے مسلمان بنانے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ایک پولیس میں کو تربیت دینے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے بس وہی کچھ ہم بھی اپنی پولیس ٹریننگ کے نظام میں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں سے تربیت پا کر لکتا ہے تو وہ پولیس ڈیوٹی ادا کرنے

کے لیے تو بخوبی تیار ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر اسلامی اخلاق موجود نہیں ہوتے، إِلَّا يَعْلَمُ اللَّهُ كَيْفَ أَعْلَمُ  
نے اس پر فضل کیا ہو اور اس کے اندر ہماری اس غفلت کے باوجود اسلامی اخلاق کے وہ  
اثرات باقی رہ گئے ہوں جو وہ ہماری ٹریننگ سے نہیں بلکہ کہیں اور سے لے آیا ہے۔ اس کے  
بعد اگر ہماری پولیس میں کوئی کرپشن ہو، اس کی سر پرستی میں جرائم پرواں چڑھیں، اور اس کے  
زیر سایہ اسمگنگ ہوتا رہے، تو پھر شکایت نہ کبھیئے، کیونکہ آپ نے ایسی کوشش ہی نہیں کی جس  
سے ہماری پولیس اسلامی اخلاق و کردار کی حامل ہو۔ ہمارے ہاں مختلف ملازمتوں کی ٹریننگ کا  
جونظام ہے اس میں اور کسی کا قوم کی ٹریننگ کے نظام میں کوئی فرق نہیں ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ  
جب لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور بڑے عہدوں تک پہنچتے ہیں تو سوائے ان لوگوں کے جن میں  
اسلامی اخلاق، اسلامی کردار اور اسلام کی سیرت کسی دوسرے ذریعہ سے آئی ہے وہ اچھے  
مسلمان افسر ثابت نہیں ہوتے۔

جہاں تک فوجوں کی تربیت کا تعلق ہے، تو اگر بعض اسلامی ممالک کی فوجوں نے بہترین  
کارنا موں کا ثبوت دیا اور زبردست جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور مجاهد ان سرفوشی کا ان سے  
ظہور ہوا ہے اس کا سرچشمہ ہماری فوجی تربیت میں کس جگہ ہے؟ اس کا سرچشمہ وہ مسلمان  
مانکیں ہیں جنہوں نے ان کے کانوں میں خدا رسول ﷺ کا نام ڈالا تھا۔ اس کا سرچشمہ وہ

ا۔ ٹھیک بھی مضمون ہے ایک حدیث کا جس میں نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:  
مَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ  
فَخَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا كَتَبَهُ اللَّهُ شَاءَ كِرَأً صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَا  
إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمَّا  
يَكْتُبَهُ اللَّهُ شَاءَ كِرَأً وَلَا صَابِرًا۔ (ترمذی)

”جس نے اپنے دین کے معاملہ میں اپنے سے اپنے سے برقرار رکھی اور اس کی پیروی میں آگے  
بڑھا، اور اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کوڈیکھا اور اللہ کے دینے ہوئے فضل پر اس کا شکر  
اد کیا، وہ اللہ کے ہاں شاکر اور صابر لکھا گیا۔ (بخلاف اس کے) جس نے اپنے دین کے معاملے  
میں اپنے سے کم تر اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے برقرار رکھی اور دنیا پانے میں جو کوئی رہ گئی اس  
پر حسرت و آندوہ میں بٹلا ہوا وہ اللہ کے ہاں نہ شاکر لکھا گیا نہ صابر۔“

مسلمان معاشرہ ہے جس کی بھی کچھی روایات نے ان کے دل و دماغ میں خدا اور رسول ﷺ پر  
 آخرت جہاد اور شہادت کے تصورات بھار کئے تھے اور اسلام کی محبت کا تجھ بور کھا تھا، مگر یہ چیز  
 ہماری تربیت کے نظام میں شامل نہیں تھی۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی  
 تعلیمیات کے وہ اثرات موجود تھے جو اس آڑے وقت میں ہمارے کام آگئے۔ لکھیں اگر ہم  
 مسلسل اس معاشرے کو بھی بگاڑتے رہے تو یہ اثرات بھی آخر کتب تک چلیں گے۔ آئندہ  
 نسلوں کو یہ چیز کم سے کم تر ہی ملتی چلی جائے گی۔ ہماری درس گاہوں میں جو خواتین اب تیار ہو  
 رہی ہیں ان کی گودوں سے پرورش پا کر نکلنے والے نوجوانوں میں ان اثرات کے باقی رہ  
 جانے کی کم ہی امید کی جاسکتی ہے۔ یہ اثرات تو انہی لوگوں میں پائے گئے ہیں جنہوں نے  
 اپنے گھروں میں اپنی ماڈل کو نماز پڑھتے دیکھا تھا جنہوں نے ان سے خدا اور رسول کا نام سنا  
 تھا جنہوں نے انہیں قرآن پڑھتے دیکھا تھا۔ مگر جوئی مانیں اب تیار ہو رہی ہیں۔ ان کے  
 ہاں تو فلم ایکٹریسوں کا ذکر ہوتا ہے۔ نئی آنے والی فلموں پر تبصرے ہوتے ہیں، سہیل تماشوں کی  
 گفتگو ہوتی ہے، مگر خدا اور رسول کا نام مشکل ہی سے ان کی زبانوں پر کبھی آتا ہے۔ ان کو  
 گودوں سے جو نوجوان پرورش پا کر نکلیں گے کیا ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ پھر وہ خدا اور  
 رسول کے نام پر جانیں دیں گے اور ان کے اندر شہادت کے وہ تصورات ہوں گے جواب اس  
 وقت ہمارے نوجوانوں کے اندر پائے گئے، جن کی وجہ سے انہوں نے یہ شاندار قربانیاں  
 دیں؟ اگر ہم فی الواقع اس ملک کے لیے اور اس ملک کے نظام زندگی کے لیے کٹ مرنے  
 والے نوجوان تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی فوبی تربیت کے ساتھ اعلیٰ سے  
 اعلیٰ درجے کی اسلامی تربیت دینے کی فکر بھی کرنی چاہئے جو دلوں میں ایمان کو گہرا بھاگاے اور  
 ان عقائد اور اخلاقیات کو نشوونما دے جن کی طاقت سے وہ آئندہ اس سے بھی زیادہ قربانیاں  
 دینے کے قابل ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے سے کئی گنازی زیادہ بڑے دشمن کے مقابلے  
 میں زندہ رکھ سکتی ہے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ایک آواز جو پچاس سال سے دلوں پر دستک دے رہی ہے۔

آنکھیں بند کر کے چلنا ایک شخص کے لیے جتنا مہلک ہو سکتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ مہلک ایک قوم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کھلے میدان میں بھی بند آنکھوں کے ساتھ چل کر ٹھوکر سے محفوظ نہیں رہ سکتے لیکن سڑک پر جہاں آمد و رفت کا ہجوم ہوا اور نور دلوں کے درمیان کشکاش ہو رہی ہو۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو یقیناً آپ کو کسی مہلک حادث سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایسی ہی حالت ایک قوم کی بھی سمجھ لیجئے۔ معمولی حالت میں جب کہ فبا میں کوئی غیر معمولی ہنگامہ نہ ہو۔ اس کے لیے آنکھیں جسمانی نہیں عقل و بصیرت کی آنکھیں۔ بند کر کے چلنا شخص نقصان اور مضرت کا موجب ہوتا ہے مگر جب کوئی انقلاب درپیش ہو۔ جب قسمتوں کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ جب زندگی و موت کا مسئلہ سامنے ہو، ایسے وقت میں وہ آنکھیں بند کر کے چلے گی تو اسے تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو لوگ خس و خاشاک کی طرح ہرروپر بہنے کے لیے تیار ہیں اور جن کو خدا نے اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں دی ہے کہ اپنے لیے زندگی کا کوئی راستہ متعین کر سکیں۔ ان کا ذکر فضول ہے۔ انہیں غفلت میں پڑا رہنے دیجئے۔ زمانہ کا سیلا ب جس رخ پر ہے گا وہ آپ سے آپ اسی رخ پر بہ جائیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں سے بھی قطع نظر کیجئے جو آنے والی انقلابی قوتوں پر سمجھ بوجھ کر ایمان لائے ہیں اور بالا ارادہ وہ اسی رخ پر جانا چاہتے ہیں جس پر زمانہ کا طوفانی دریا جا رہا ہے۔ اب صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں اور تمہارکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب زندہ رہے اور ہماری آئندہ نسلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ راست پر قائم رہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ عقدت رواداری سے گزار دینے کا نہیں بلکہ گہری سوچ اور غایت درجہ کے غور و فکر کا ہے۔ وہ اگر اس نازک وقت میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیں گے تو ایک جرم عظیم کا ارتکاب کریں گے اور اس جرم کی سزا صرف آخرت ہی میں نہ ملے گی بلکہ اسی دنیا کی زندگی میں ان پر چھا جائے گا۔ زمانہ کا بے درد ہاتھ ان کی آنکھوں کے سامنے تہذیب اسلامی کے ایک ایک نشان کو مٹائے گا اور وہ بے بُسی کے ساتھ اس کو دیکھا کریں گے۔ زمانہ ان کے

قومی وجود کو ملیا میٹ کرے گا ایک ایک کر کے ان امتیازی حدود کوڑھائے گا جن سے اسلام غیر اسلام سے ممیز ہوتا ہے۔ ہر اس خصوصیت کو فنا کر دے گا جس میں مسلمان دنیا میں فخر کرتا رہا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں خود اپنے گھروں میں اپنی نو خیز نسلوں کو خدا پرستی سے دور، اسلامی تہذیب سے بیگانہ اور اسلامی اخلاق سے عاری دیکھیں گی اور آنسو تک نہ بہا سکیں گے۔ ان کی اپنی اولاد اس فوج کی سپاہی بن کر اٹھے گی جسے اسلام اور اس کی تہذیب کی خلاف صاف آرائیا جائے گا۔ وہ اپنے جگہ گوشوں کے ہاتھ سے تیر کھائیں گے اور جواب میں کوئی تیر چلا سکیں گے۔

یہ انجام یقین ہے اگر کام کے وقت کو غفلت میں کھو دیا گیا۔ انقلاب کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں۔ اور اب فکر و عمل کے لیے بہت ہی تھوڑا وقت باقی ہے۔  
مفکر عصر سید مودودی

